



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

رنگ ساز اور ماہر آرائش (دھاتی پینٹ اسپرے) ٹریڈ ٹیسٹ موک تحریری ٹیسٹ پیپر

此文件關於髹漆及裝飾工（鐵器噴漆）工藝測試考題有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000 與香港建造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of trade test for Painter and Decorator (Metal Paint Spray). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

اظہار لا تعلقی

سی آئی سی کی لکھی ہوئی اجازت کے بغیر اس مواد کے کسی بھی حصے کو دوبارہ چھاپہ، تیار یا منتقل کسی بھی طرح سے یا کسی بھی مقصد کے لئے نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ اس مواد میں شامل معلومات کی درستگی کو یقینی بنانے کے لئے مناسب کوششیں کی گئی ہیں، اس کے باوجود سی آئی سی ہمیشہ قارئین کو جتنا ممکن ہو اپنے پیشہ ور مشیروں سے آزادانہ مشورہ طلب کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گا اور قارئین کسی متعلقہ اقدامات کے لئے ایسے پیشہ ور مشورے کے لئے اس مواد کو بطور متبادل نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر انحصار کریں۔

معلومات

اس مواد کے بارے میں انکوائری ہانگ کانگ کنسٹرکشن انڈسٹری ٹریڈ ٹیسٹنگ سینٹر میں کی جا سکتی ہے۔

95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong

95, یو کونگ روڈ
آبرڈین
ہانگ کانگ

(852) 2100 9000 : ٹیلی فون
(852) 2100 9090 : فیکس
enquiry@cic.hk : ای میل
www.cic.hk : ویب سائٹ

© 2020 تعمیراتی صنعتی کاؤنسل۔

1. قانون کے مطابق تعمیراتی جگہ پر داخل ہونے کے لئے کام کرنے والے کو کس قسم کا دستاویز اپنے پاس رکھنا لازمی ہے؟

- (a) ہانگ کانگ اور مکاؤ کے باشندوں کے لئے مین لینڈ سفری اجازت نامہ
- (b) وفاق ہائے انجمنان تجارت ہانگ کانگ کی رکنیت کا کارڈ
- (c) طبی کارڈ
- (d) مؤثر حفاظتی تربیتی سند برائے تعمیراتی صنعت (یعنی کہ گرین کارڈ)

2. کس علاقے میں تعمیراتی فضلہ جلانے کی اجازت ہے؟

- (a) کھلے علاقے میں
- (b) فضلہ جمع کرنے کے عارضی علاقے میں
- (c) مٹی ذخیرہ کرنے کے عارضی علاقے میں
- (d) کسی بھی علاقے میں ممنوعہ ہے

3. سخت ٹوپی (ہیٹ) پہننے یا رکھنے کے لئے ان میں سے کون سا عمل غلط ہے؟

- (a) کانوں کو ڈھکنے والے گلوبند کے ساتھ
- (b) اس پر لیبل چپکانا
- (c) بکسوئے سے اس میں سوراخ کرنا
- (d) گرد سے بچاؤ کے ماسک کے ساتھ پہننا

4. خطرناک اشیاء کے ضمن میں آئل پیٹ کو ذیل درجہ بندی میں رکھا جاتا ہے

- (a) خطرناک اشیاء نمبر 3
- (b) خطرناک اشیاء نمبر 5
- (c) خطرناک اشیاء نمبر 7
- (d) ان میں سے کوئی نہیں

5. ان میں سے کون سا رنگ رنگین پیٹ ہے؟

- (a) سرخ
- (b) سیاہ
- (c) سفید
- (d) سلیٹی

6. ان میں سے کون سے اجزاء کی بخارات بن کر اڑ جانے کی شرح سب سے سست ہے

- (a) تھنر
- (b) تریپائن
- (c) الکحل
- (d) آتش گیر تیل

7. طیف میں ان میں سے کون سے رنگ کی طول موج سے کم ہے؟

- (a) جامنی
- (b) سبز
- (c) سرخ
- (d) پیلا

8. 2 پیک پولیسٹر آٹو باڈی لئی میں سختی لانے کا مقصد _____

- (a) آٹو باڈی لئی کے بنیادی رنگ میں اضافہ
- (b) آٹو باڈی لئی کو با آسانی پلاستر کرنا
- (c) پولیسٹر آٹو باڈی لئی کو ٹھوس کرنا
- (d) آٹو باڈی لئی کے ماسکنگ قوت میں اضافہ کرنا

9. ذیل میں اسپرے پینٹ کے کھلنے کی وجہ کیا ہے _____

- (a) پینٹ کی تہہ کا بہت سخت ہونا
- (b) درجہ حرارت بہت زیادہ ہونا
- (c) پینٹ کے اندر نمی
- (d) پینٹ کے اندر بلبلوں کو موجود ہونا

10. نمی کی حالت میں ذیل میں سے کون سا طریقہ کار پینٹ اسپرے کو کھلنے سے روک سکتا ہے؟

- (a) پنکھا آن کرنا
- (b) بالائے بنفشی شعاعوں کے نیچے رکھنا
- (c) ہوادان کا پنکھا آن کرنا
- (d) کھڑکیوں کو مکمل طور پر کھولنا

11. لکڑی (سرخ) ریگ مال کے ان میں سے کون سے نمونے ریت کے ذرات کا سب سے بڑے قطر کے حامل ہیں؟

- (a) 100 نمبر
- (b) 120 نمبر
- (c) 150 نمبر
- (d) 180 نمبر

12. ذیل میں سے کون سے پینٹ کی سُوکھنے کی رفتار سب سے کم ہے؟

- (a) اینیمل پینٹ
- (b) اسپرے پینٹ
- (c) برشنگ سنہری روغن
- (d) شفاف سنہری روغن

13. اسپرے کرتے وقت پینٹ کی کوالٹی کو متاثر کرنے والا بنیادی عنصر ہ _____

- (a) خاص دباؤ
- (b) پینٹ کا اچھا معیار
- (c) اسپرے کی بدلتی رفتار
- (d) تھنر کا معیار

14. کوٹنگ کو متاثر کرنے والے اسپرے کے لیے ہوا کے دباؤ کے استعمال کے لیے ڈالا گیا دباؤ ذیل ہونا چاہیے _____

- (a) فضائی دباؤ سے کم
- (b) فضائی دباؤ سے زیادہ
- (c) فضائی دباؤ کے مساوی
- (d) بالا میں سے کوئی نہیں

15. پینٹ کے مندرجہ ذیل گروپس میں سے کون سا مرکب نہیں ہوسکتا ہے؟

- (a) ٹیکسچرڈ لیٹیکس پینٹ اور ایمیشن پینٹ
- (b) صاف ستھرا سنہری روغنی پینٹ اور برشنگ سنہری روغن
- (c) وارنش اور آئل پینٹ
- (d) گلاس لیٹیکس پینٹ اور آئل پینٹ

16. پینٹ میں رنگوں کا جتنا زیادہ امتزاج ہو گا رنگت اور دھندلا پن اتنا ہی ذیل
ہوگا _____

- (a) کم
- (b) زیادہ
- (c) ٹھنڈا پن
- (d) گرم

17. بازار سے خریدے گئے روغنی کھرچن کی عمومی چوڑائی ہوتی ہے _____

- (a) 1 انچ
- (b) 2 انچ
- (c) 3 انچ
- (d) بالا تمام

18. ان میں سے کس چوڑائی کے روغنی کھرچن کی دستیابی بازار میں مشکل ہوتی؟

- (a) 1 انچ
- (b) 2 انچ
- (c) 4 انچ
- (d) 7 انچ

19. رنگ ساز کو ذیل میں سے کس حفاظتی طریقہ کار پر کاربند ہونا چاہئے؟

- (a) کام کے دوران سگریٹ نوشی کی ممانعت
- (b) آتش گیر مصنوعات کو آگ سے دور رکھنا اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنا
- (c) حادثات رونما ہونے سے بچانے کے لئے مناسب حفاظتی تدابیر اختیار کرنا
- (d) بالا تمام

20. انسداد رشوت آرڈیننس کے مطابق "فائدے" کی تعریف میں شامل ہے _____

- (a) صرف ذاتی خدمت
- (b) صرف قرضہ جات
- (c) صرف قرضہ جات اور خدمات
- (d) تحائف قرضہ جات اور خدمات

- اختتام پرچہ -